

Meillä voit puhua yksinäisyydestä

Loneliness can be eased – tell, ask and listen!

Ensamhet kan lindras – berätta, fråga och lyssna!

Yksinäisyyttä voi helpottaa – kerro, kysy ja kuuntele!


Существуют способы облегчить одиночество – рассказывайте, спрашивайте и слушайте!

Keni nevojë për dikë për të folur apo thjesht për të dëgjuar?

Üksindust saab leevendada – räägi, küsi ja kuula!

هل تحتاج إلى شخص للاستماع إليك أو للتحدث معه ليكون بصحبتك؟

Ma u baahan tahay qof aad la hadasho ama aad dhageysato?



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde



Vantaa
Vanda



Euroopan unionin
rahoittama
NextGenerationEU